

FORM OF ORDER SHEET

Court of \_\_\_\_\_

Appeal No. \_\_\_\_\_

89/2024

S.No.	Date of order proceedings	Order or other proceedings with signature of judge
1	2	3
1	05/01/2024	<p>The appeal of Mst. Najma Firdous presented today by Mr. Mohibullah Tarichvi Advocate. It is fixed for preliminary hearing before Single Bench at Peshawar on _____ Parcha Peshi is given to counsel for the appellant.</p> <p style="text-align: right;">By the order of Chairman</p> <p style="text-align: right;">REGISTRAR</p>

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Service Appeal No. 29 /2024

Mst. Najma Firdous .....(Appellant)

**VERSUS**

Secretary Health Services, Government of Khyber  
Pakhtunkhwa and others.....(Respondents)


**I N D E X**

<b>S.No</b>	<b>Description of Documents</b>	<b>Annex</b>	<b>Pages</b>
1.	Service Appeal		1-5
2.	Affidavit		6
3.	Addresses of the parties		7
4.	Copy of office order and inquiry report	A	8-9
5.	Copies of both the impugned orders	B & C	10-11
6.	Copy of representation	D	12
7.	Copies of other relevant documents		13-20
8.	Wakalat Nama		21

Appellant

Through

Dated: 05/01/2024

  
**Muhibullah Tarichvi**  
**LLM**  
Advocate High Court,  
Peshawar.  
Cell No. 0345-3434235

1

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Service Appeal No. 29 /2024

Mst. Najma Firdous D/o Muhammad Suleman (RNO) (BS-16),  
District Headquarter Hospital, KDA, Kohat.....(Appellant)

**VERSUS**

1. Secretary Health Services, Government of Khyber Pakhtunkhwa, Khyber Road, Peshawar.
2. Director General Health, Khyber Pakhtunkhwa, Warsak Road, Peshawar.
3. Medical Superintendent, District Headquarter Hospital, KDA, Kohat.....(Respondents)

**APPEAL UNDER SECTION 4 OF KHYBER**  
**PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL ACT,**  
**1974, AGAINST THE IMPUGNED ORDER**  
**DATED 03/10/2023 SERIAL NO. 1**  
**WHEREBY THE APPELLANT HAS BEEN**  
**TRANSFERRED FROM THE DHQ HOSPITAL**  
**KOHAT TO SHAHEED FARID KHAN DHQ**  
**HOSPITAL HANGU AGAINST THE VACANT**  
**POST.**

**PRAYER:**

*On acceptance of the instant service appeal, the impugned transfer order dated 03/10/2023 of respondent No. 2 and reliving order dated 03/10/2023 may kindly be set aside and the*

②

respondents No. 3 may kindly be directed to allow performing duty in DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.

Any other remedy which this Hon'ble Tribunal deems fit that may also be awarded in favour of the appellant.

**Respectfully Submitted:**

1. That the appellant is the employee of the respondents department and performing her duties as Registered Nursing Officer (RNO) BS-16 DHQ Teaching Hospital KDA Kohat quite efficiently and to the entire satisfaction of her superiors and so far no complaint whatsoever made against the appellant.
2. That on the complain of the colleague staff about hostel accommodation respondent No. 3 through office order dated 28/03/2023 initiated a departmental inquiry committee to probe into the matter where after the inquiry committee submitted his final report. (Copy of office order and inquiry report are attached as annexure "A").

3

3. That after receiving the inquiry report respondents issued transfer order dated 03/10/2023 of appellant on administrative grounds whereby the appellant has been transferred from DHQ Teaching Hospital KDA Kohat to Shaheed Farid Khan DHQ Hospital Hangu and respondent No. 3 relieved the appellant from the DHQ Teaching Hospital KDA Kohat. (Copies of both the impugned orders are attached as annexure "B" & "C").
4. That feeling aggrieved from impugned orders the appellant preferred departmental representation, which was no response till date. (Copy of representation is attached as annexure "D").
5. That the appellant aggrieved from the impugned transfer order and having no other remedy preferred the instant service appeal on the following grounds:

**GROUND:**

- A. That the impugned transfer order dated 03/10/2023 tenable contrary to law and rule hence

4

not liable in the eyes of law and needs interference of this Hon'ble Tribunal to be set aside.

- B. That appellant has not been treated by the respondent department in accordance with law and rules on the subject noted above and as such the respondents violated Article 4 and 25 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973.
- C. That the treatment meted out to the appellant is a violation of the fundamental rights of the appellant as enshrined in the Constitution of Islamic Republic of Pakistan, 1973.
- D. That both the impugned orders are also violative of Rule 12 of the Appointment, Promotion and Transfer Rules 1989.
- E. That the impugned order is against the zonal policy of health department.
- F. That the treatment of the respondents are malafide, malicious and discriminatory one.

(5)

G. That other ground will be raised at the time of arguments with the prior permission of this Hon'ble Tribunal.

It is, therefore, respectfully prayed that on acceptance of the instant service appeal, the impugned transfer order dated 03/10/2023 of respondent No. 2 and reliving order dated 03/10/2023 may kindly be set aside and the respondent No. 3 may kindly be directed to allow performing duty in DHQ Teaching Hospital KDA Kohat in her previous position.

Any other remedy which this Hon'ble Tribunal deems fit that may also be awarded in favour of the appellant.

Appellant

Through

Dated: 05/01/2024



**Muhibullah Tarichvi**  
**LLM**

Advocate High Court,  
Peshawar.

Cell No. 0345-3434235

6

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL.**

**PESHAWAR.**

Service Appeal No. \_\_\_\_\_/2024

Mst. Najma Firdous .....(Appellant)

**VERSUS**

Secretary Health Services, Government of Khyber  
Pakhtunkhwa and others.....(Respondents)

**AFFIDAVIT**

I, Mst. Najma Firdous D/o Muhammad Suleman (RNO)  
(BS-16), District Headquarter Hospital, KDA, Kohat, do hereby  
solemnly affirm and declare that all the contents of the  
**Service Appeal** are true and correct to the best of my  
knowledge and belief and nothing has been concealed from  
this Hon'ble Tribunal.



**DEPONENT**

CNIC: 14202-4239043-6

Cell No. 0334-8322832



7

**BEFORE THE KHYBER PAKHTUNKHWA SERVICE TRIBUNAL,**  
**PESHAWAR.**

Service Appeal No. \_\_\_\_\_/2024

Mst. Najma Firdous .....(Appellant)

**VERSUS**

Secretary Health Services, Government of Khyber  
Pakhtunkhwa and others.....(Respondents)

**ADDRESSES OF THE PARTIES**

**APPELLANT:**

Mst. Najma Firdous D/o Muhammad Suleman (RNO) (BS-16),  
District Headquarter Hospital, KDA, Kohat.

**RESPONDENTS:**

1. Secretary Health Services, Government of Khyber  
Pakhtunkhwa, Khyber Road, Peshawar.
2. Director General Health, Khyber Pakhtunkhwa, Warsak Road,  
Peshawar.
3. Medical Superintendent, District Headquarter Hospital, KDA,  
Kohat.

Appellant

Through



Dated: 05/01/2024

**Muhibullah Tarichvi**  
**LLM**  
Advocate High Court,  
Peshawar.

(8)

Anex 16 A

OFFICE OF THE  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KDA; KOHAT

**OFFICE ORDER**

An enquiry committee comprising of the following members is hereby constituted and directed to conduct the fact finding enquiry in to the complaint of Ms Rashida Begum (C/N) against Ms. Najma firdous (C/N) and submit the report along with recommendations within three days positively (copy of complaint attached).

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Dr. Naeem Shah (DMS Estb/HR)               | Chairman |
| 2. Dr. Mussarat Ali (PMO/MLO)                 | Member   |
| 3. Dr. Syed Tahir Ali Shah (DMS Coordination) | Member   |


SD/  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KOHAT

No. 1727 /K-18

Dated Kohat the 28 /03/2023

Copy forwarded to the:-

1. Regional Director Health services (south) Khyber pakhtoon Khuwa.
2. Enquiry Committee for further necessary action.
3. All concerned for information.

  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KOHAT

9

Dated Kohat the: 03/04/2023

## INQUIRY REPORT

With reference to the Medical Superintendent DHQ Teaching Hospital KDA Kohat Office No.1207/K-18 dated 28/03/2023.

After assessing Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) personal file, Mst. Jamsheeda Ghafoor (Nursing Superintendent), Mr. Syed Nawaz (Nursing Supervisor - Morning) and complainant Mst. Rasheeda Begum (Charge Nurse), the following was concluded:-

1. Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) has some behavior issues or personality problem for being unmarried? Psychiatrist help can be taken in her case.
2. Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) did not take proper route to handle the issue and instead tried to handle the case ill handedly.
3. Warden of hostels should be appointed.
4. Defined SOPs for hostel affairs for residents may be followed in future.
5. All illegal residents from the hostel rooms should be directed to leave with immediate order.
6. Moreover, Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) kept illegal residents in her hostel room without permission from the competent authority, therefore her room allotment should be cancelled.
7. Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) has no respect for hospital management or seniors. Her bad behaviour, arrogance and ready to flare fight are sufficient grounds so that Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) may be relieved from this institution, with immediate effect.
8. Mst. Rasheeda Begum (Charge Nurse) shall be served with last warning for being involved in fight with Mst. Najma Firdous (Charge Nurse) and her hostel allotment should be cancelled for keeping illegal residents in her hostel room without permission from the competent authority.
9. Medical Superintendent, if directs committee can provide defined set of SOPs for hostel residents.

Member

Dr. Musarat Ali  
MLO / PMO

DHQ Teaching Hospital  
Kohat  
Principal Medical Officer  
DHQ Teaching Hospital  
Kohat

Member

Dr. Syed Tahir Shah  
DMS (Coord:)

DHQ Teaching Hospital  
Deputy Medical Superintendent  
DHQ Teaching Hospital Kohat

Chairman

Dr. Naeem Shah  
DMS (Estab: / HR)

DHQ Teaching Hospital  
Deputy Medical Superintendent  
DHQ Teaching Hospital Kohat



(10)

## DIRECTORATE GENERAL HEALTH SERVICES

### KHYBER PAKHTUNKHWA PESHAWAR

Anex <sup>16</sup> B<sub>3</sub>

All communications should be addressed to The Director General Health Services Peshawar and not to any official by name

☎ 92101921 - 92101922 ☎ Fax ☎ 9210192 ☎ 9210192 ☎ 9210192 ☎ 9210192 ☎ 9210192

**OFFICE ORDER**

As approved by the competent authority the following posting/transfer of Registered Nurse Officer (RNO) / Charge Nurses (BPS-16) are hereby ordered on administrative ground in the interest of public Service with immediate effect:-

S.#	Name of Charge Nurse	From	To	Remarks
01	Mst. Najma Firdous D/O Muhammad Suleman RNO BS-16	DHO Hospital, Kohat	Shaheed Farid Khan DHO Hospital, Hangu	Against the vacant post
02	Mst. Rashida Begum RNO BS-16	DHO Hospital, Kohat	DHO Hospital, Karak	Against the vacant post

NB: - Annual/Departure reports should please be submitted to this Directorate for record.

Sd/-  
DIRECTOR GENERAL HEALTH SERVICES, K.P. PESHAWAR.

No 5717-25 /E II. Dated Pesh The 03/10/2023.

Copy forwarded to the -

- 01. Medical Supdt. DHO Hospital Kohat for information w/r to his letter No 654/PF dated 15.02.2023
- 02. Medical Supdt. DHO Hospital Karak
- 03. District Health Officer Kohat for information w/r to his letter No 3505/DHO/Kohat dated 25.09.2023
- 04. Medical Superintendent, Shaheed Farid Khan DHO Hospital, Hangu
- 05. District Account Officer, Kohat.
- 06. District Account Officer, Hangu
- 07. District Account Officer, Karak.
- 08. Registered Nurse Officer concerned.
- 09. DA-concerned, DGHS KP Peshawar.

For information and necessary action

*ext. Suleman / Act Suleman*  
*done necessary Action*  
*M. Anwar*

ADD: DIRECTOR (NURSING)  
DIRECTORATE GENERAL HEALTH SERVICES, KP PESHAWAR

*7*  
2/10/2023

*M. Anwar*  
3/10/2023

11

Annex "C"

OFFICE OF THE  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KDA; KOHAT

**OFFICE ORDER**

With reference to the Additional Director (Nursing) Directorate General Health Service Khyber Pakhtunkhwa Peshawar office order No.5717-25/E.II DATED 03.10.2023; the following Registered Nurse Officer (RNO) / Charge Nurses (BS - 16) are hereby relieved from their duties at this hospital and directed to report to their new place of posting, with immediate effect, on administrative ground, in the best interest of public service (copy attached).

Sr.	Name of Charge Nurse	From	To
1.	Ms. Najma Firdous	DHQ Teaching Hospital KDA Kohat	Shaheed Farid Khan DHQ Hospital Hangu
2.	Ms. Rashida Begum	DHQ Teaching Hospital KDA Kohat	DHQ Hospital Karak

SD/-  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KOHAT

No. 4115-23 /PF

Dated Kohat the 03 /10/2023

Copy forwarded to the:-

1. Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa for Information w/r to his office No. quoted above.
2. Regional Director Health Services (South) Khyber Pakhtunkhwa.
3. Medical Superintendent, DHQ Hospital Karak.
4. Medical Superintendent, Shaheed Farid Khan DHQ Hospital Hangu.
5. District Comptroller of Accounts, Kohat.
6. Deputy Medical Superintendent (Admin) DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.
7. Nursing Superintendent DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.
8. Accounts / Establishment Sections DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.
9. Charge Nurses concerned.

For information and further necessary action.

*M. Mithar*  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KOHAT

بخدمت جناب سیکرٹری ہیلتھ صاحب، خیبر پختونخواہ  
پشاور

درخواست برآمد کینسل کرنے  
آفس آرڈر نمبر EII/25-5717-5717 مصدرہ 13 اکتوبر 2023

جناب عالی! گزارش ہے۔

1- یہ کہ سائلہ DHQ چیچنگ ہسپتال KDA کوہاٹ میں رجسٹرڈ نرسنگ آفیسر RNO/چارج نرس (BS-16) خدمات انجام دے رہی ہوں، اور میری سروس 13 سالوں پر محیط ہے۔

2- یہ کہ ہسپتال کے نرسنگ ہاسٹل میں تنازعہ ہو کر معاملہ انکوائری تک پہنچ گیا انکوائری 03/04/2023 کو رپورٹ آئی، اور اس انکوائری کے بنیاد پر وارنٹنگ دیکر معاملہ ختم کر دیا گیا انکوائری رپورٹ اور وارنٹنگ لیٹر لف ہذا ہے۔

3- یہ کہ سائلہ اس کے بعد بدستور اپنے سرکاری فرائض منصبی انجام دے رہی ہوں کہ اچانک 03/10/2023 کو سائلہ کو بغیر کسی وجہ کے دوران علاقہ ہنگوٹرا سفر کر دیا گیا جو کہ غیر قانونی ہے، آفس آرڈر کی کاپی لف ہذا ہے۔

4- یہ کہ سائلہ بنیادی طور پر کرک سے تعلق رکھتی ہے اور نزدیک اسٹیشن کوہاٹ میں ڈیوٹی انجام دے رہی ہوں اور چھٹیوں میں گھر جا کر اپنے بوڑھے والدین کی بیماری داری کر رہی ہے جو کہ زیر علاج ہیں اور سائلہ گھر کی واحد تقبل بھی ہے اور سنگل ہے، سائلہ کیلئے ہنگوٹرا جیسے دور دراز علاقہ جا کر ڈیوٹی انجام دینا ناممکن ہے۔

لہذا استدعا ہے کہ سائلہ کا ٹرانسفر آرڈر مورخہ 03/10/2023 کینسل فرما کر سائلہ کو اپنے اسٹیشن DHQ کوہاٹ میں ڈیوٹی انجام دینے کا حکم صادر فرمائیں۔

المرقوم: 05/10/2023

عرضی

نجمہ فردوس ولد محمد سلمان  
RNO/چارج نرس، DHQ ہسپتال کوہاٹ

13



**GOVERNMENT OF KHYBER PAKHTUNKHWA  
HEALTH DEPARTMENT**

No SOH-III/3-5/2023/Najma Firdous  
Dated the Peshawar 12<sup>th</sup> October, 2023

To

**The Director General,  
Health Services Khyber Pakhtunkhwa  
Peshawar**

Subject **REQUEST FOR CANCELLATION OF POSTING/TRANSFER ORDER.**

I am directed to refer to the subject noted above and to state that Miss Najma Firdous Charge Nurse (BS-16) attached to DHQ Hospital Kohat (under transfer to DHQ Hospital Hangu) has submitted a Departmental appeal against the office order dated 03.10.2023 of Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa to this Department and request for cancellation of the above mentioned order.


In view of the above it is therefore, request that views/comments in the subject case may be furnished to this Department at the earliest to proceed further in the matter, please.

  
(ALI KHAN)  
SECTION OFFICER - III

Endst: of even no & date.

Copy forwarded to:-

1. PS to Secretary Health, Khyber Pakhtunkhwa.
2. P S to Special Secretary Health Department.

  
SECTION OFFICER - III

To

The Medical Superintendent  
DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.

Subject: **COMPLAINT AGAINST BELLIGERENT BEHAVIOR OF C/N NAJMA FIRDOS**

Respected Sir,

I would like to bring into your kind consideration the hostile behavior of one of our colleague staff Miss Najma. Yesterday she alongwith her sisters entered my room without knocking, she was furious and combative and used very rough tone. Her behavior was very rude and violent and she alongwith her sister and niece beat me up. This is not the first instance this has happened. Her violent behavior is habitual. She and her sisters sneak into rooms without seeking any prior permission and threaten fellow staff members, sometimes beating them up. I would like to mention that her married sisters are living in the hostel illegally. At first we bore with her rude behavior thinking she will change but now we've had enough of her and cannot put up with her belligerent behavior anymore. She was also warned to behave herself few days back but in vain.

Your kind honour is therefore requested to kindly take strict actions against her before something unfortunate happens.

I shall be thankful.


Yours truly,

*Rashida Begum*  
Ms. Rashida Begum  
Charge Nurse  
DHQ Teaching Hospital KDA Kohat

*Dr. Naeem Shah chairman*  
*Dr. Muneer member*  
*Dr. Talwar member*  
*are nominated to conduct*  
*Food Quality Inquiry and*  
*Ms. Rashida*  
*Can both*  
*Miss Najma*  
*Permitted*  
*28/3/23*  
*27/3/23*  
*1. Submit the report with the*  
*As approved*  
*ACW*

Dated: 27/03/2023





اقوال زمانہ / اراغی نامہ

- 1 فریق اول نجم فریدی ولد محمد سلطان چارج ٹریس جھانڈا صاحب کوکاٹ
- 2 فریق دوم امین ولد لاہور صاحب خان ریڈیٹر ٹی جھانڈا صاحب کوکاٹ
- 3 فریق سوم رشیدہ بیگم چارج ٹریس جھانڈا صاحب کوکاٹ

اقرار ہے کہ فریق اول کا فریق دوم کے ساتھ زمانہ کی مسئلہ میں داخلہ  
 اعتراف نہیں تھا۔ اور فریق دوم اکثر اوقات میں زمانہ کی مسئلہ رشیدہ بیگم کی ہدایت  
 پر چادر و چار دیواری کو پھینک کر تاراج - اور تازیبہ حرکت میں ملوث کیا گیا  
 اور رشیدہ بیگم کی مسئلہ کے حالات فریب کرنے پر اجازت تھی۔ اس نام واقعات  
 کا مدنی نقل پرنٹنگ ٹرنٹ کو خوب علم تھا۔ لیکن خاموشی ماسٹائی تھا۔  
 تاہم فریق اول نجم فریدی حالات سے تنگ آئی اور لوکل پولیس کو خبردار کیا۔  
 لوکل پولیس کی مداخلت پر دونوں فریقین کو فیصلے پر راضی کیا۔  
 اور فریق دوم امین خان کو آئینہ زمانہ کی مسئلہ میں حلف پر  
 کیا۔ خلاف ورزی کرنے پر امین خان کو KOD کا مسئلہ سے کہیں  
 اور سفر کیا جائیگا۔ خبریں کھری تائے سہو۔

Asif Khan  
 90 Lais Khan  
 Kurmatu Bali Town  
 Kohat  
 1430175548117

30793  
 742028  
 17  
 (1) لوہاہ  
 (2) لیس

(16)

OFFICE OF THE  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KDA; KOHAT

No. 1646 /PF

Dated Kohat the 10 /05/2023

To  
Ms. Najma Firdous (Charge Nurse)  
DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.

Subject:- **FINAL NOTICE**

Memo:  
You were directed to vacate the room occupied by you in the nursing hostel of this institution vide this office letter No.1605/PF dated 06.05.2023, but you failed to obey the order.


You are hereby once again directed to vacate the room in the nursing hostel within 24-hours, positively; failing which strict disciplinary action will be initiated against you.

  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KOHAT

Endst: No. and Date Even:

Copy forwarded to the:-

1. Director General Health Services Khyber Pakhtunkhwa Peshawar.
2. Regional Director Health Services (South) Khyber Pakhtunkhwa.
3. Deputy Medical Superintendent (Admin) DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.
4. Provost DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.
5. Nursing Superintendent DHQ Teaching Hospital KDA Kohat.

  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ TEACHING HOSPITAL  
KOHAT

OFFICE OF THE  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ HOSPITAL, KDA, KOHAT

OFFICE ORDER

MS. NAJMA FIRDUS (Charge Nurse) is hereby allotted Visitor Room of the Nursing Hostel, DHQ Hospital, KDA, Kohat, alongwith MS. FARZANA KAUSER (JCT Cardiology – Female) in the public interest with immediate effect.

SD/  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ HOSPITAL, KDA, KOHAT

No. 8654 /K-37.


Dated Kohat 11 /01/2012.

Copy forwarded to the:-

1. Accountant, DHQ Hospital, KDA, Kohat.
2. Warden, Nursing Hostel, DHQ Hospital, KDA, Kohat.
3. Person concerned.

For information and necessary action.

  
MEDICAL SUPERINTENDENT  
DHQ HOSPITAL, KDA, KOHAT



بخدمت جناب ڈی جی ہیلتھ صاحب پشاور

جناب عالی:-

اجزاء کیساتھ عرض کی جاتی ہے کہ میں شاف نرس محمد فردوس ڈی ایچ کے ہسپتال کوہاٹ میں شاف نرس کی ڈیوٹی سرانجام دے رہی ہوں۔ اور میں کوہاٹ میں نرسنگ ہوسٹال میں پیچھل ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوں۔ PNC رول کے مطابق تو یہ نرس پیچھل ہاسٹل ہے اور میں پیچھل ہاسٹل کیساتھ متعلقہ مسائل اور متعلقہ افرادی نازیبا رویہ کی شکایت کر رہی ہوں میں درخواست کرتی ہوں کہ آپ میری شکایت سنیں اور میرے مسائل کے حل کی جانچ پڑتال کریں

جہاں سے بنیادی مسئلہ شروع ہوتے ہیں اور سر میں تشیلا بیان کرتی ہوں کہ ہمارے پیچھل نرس ہاسٹل میں مرد حضرات کا آنا جانا رہتا ہے اور نازیبا حرکتیں کرتے رہے ہیں۔ جس میں Male Candidata پارسل اور شاف کی مرد دوست ان کے ہمراہ آتے ہیں منج کرنے والا کوئی نہیں ہے اور ایسے حالات میں ہم خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی ہے اس کے علاوہ اس ہاسٹل کے شاف نرس نے اپنی ذاتی ایل لیگل کسٹڈین کے کر کے اپنے لیے کوارٹر بنائے ہیں جو رول کے خلاف ہیں۔ اس میں نسل جعلی کیساتھ رہائش پذیر ہیں۔ جیسا مال اور ساس، کچھتے، پھینچتے، کھینچتے، بچے سب شامل ہیں۔ اور ان سب میں ہمارا ایڈیشن ٹیشن ملوث ہے۔ اگر اس بارے میں کوئی ایکشن کرے تو وہ انٹائم ایس ان کو ریوڈ کرنے کی دھمکی دیتے ہے اور شاف کو مسائل پیدا کرنے والا قرار دیتے دیتے ہے۔ ہمارے ہاسٹل کی کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے اور ہمارے ایڈیشن ٹیشن نے شادی شدہ نرس کو ہاسٹل میں رہنے کی سہولت دی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ اپنے شوہر بہنیت، چندہ دن تک ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوتے ہیں۔ میں نے ایڈیشن ٹیشن میں درخواست دی ہے چونکہ یہ پیچھل ہاسٹل ہے اس میں مرد حضرات کا آنا جانا بند ہونا چاہیے۔ غور طلب ہے اگر میرے روم کے ارد گرد مرد حضرات میں میل حضرات ہیں تو میں کیسے خود کو محفوظ تصور کر سکتی ہوں۔ ایسے حالات میں خود کو غیر محفوظ تصور کرتی ہوں، اور اس بارے میں میں نے ایڈیشن ٹیشن میں درخواست دی تو شادی شدہ نرسز میں سے میں نے چار نرسز نے اتحاد کر کے پتہ بند کر دیا اور ہاسٹل کو ہسپتال سے نکلنے کی دھمکیاں دے رہی ہے۔ ایڈیشن ٹیشن میں ڈاکٹر طاہر علی شاہ، مسرت علی اور قاضی نعیم نے شادی شدہ نرسز کو کہا کہ آپ لوگ شاف کے خلاف ایڈیشن ٹیشن میں درخواست دیدو ہم ان کو نرسنگ ریگولیشن، ان ڈاکٹر صاحبان کے ان نرسز کے ساتھ تعلقات اچھے، ایڈیشن ٹیشن کی طرف سے مجھ پر اپنی مرضی کے تحت کبھی بنائی گئی اور کبھی کی طرف سے جو فیصلہ بنایا اس سے عاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کبھی مہراں کا میرا ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہوا اور ان لوگوں نے جو انکو ازری میں بیان کیا ہے وہ انتہائی توہین آمیز ہے، سرانکو ازری میں کبھی بھی کوئی ایسے الفاظ نہیں لکھتا انکو ازری کے فیصلے کوئی بھی پڑھ لے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایڈیشن ٹیشن کس قدر پر عمل ہوا ہے۔ میرے لئے ماہر نفسیات ڈاکٹر کو بلانے کا کہا ہے کہ مجھے کوئی انکو ازری نہیں مجھے پرمیڈیکل بورڈ پیشا ہوا، اس ایڈیشن ٹیشن میں اگر کوئی ایسے حقوق کیلئے بات کرتا ہوا ایسے سازش ہوتی ہے کہ انسان چکرا کر رہ جاتا ہے اس کے علاوہ اس ہسپتال میں ایک آصف نامی الیکٹریشن ہے جو دو سال سے مجھے بلیک میل کرنے میں لگا ہوا ہے، میری فیملی والوں کو خط لکھ کر مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جب میرے فیملی والے اس کے باتوں میں نہیں آئے تو سابق MS کوچنگ کے ذریعے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی سابق ایم ایس نے مجھے بلایا اور میں نے ساری صورتحال اسے گاہ کیا، اس ایم ایس نامر نے مجھے نسل تحفظ دیا۔ لیکن سابق ایم ایس کے جانے کے بعد آصف پھر اپنے حرکتوں پر آتے آئے، ہاسٹل میں میری روم کی بجلی خراب کرنے کی کوشش کی، مختلف طریقوں سے مجھے تنگ کرتا رہتا ہے، اس کے تمام سازش میں کچھ نرسز اور ہمارا ایڈیشن ٹیشن ان میں ملوث ہے، ان کی ملی بھگت سے سب ہورہا ہے سر میں درخواست کرتی ہوں کہ انکو ازری کبھی اور اس پانک میں شامل تمام مہاسر مختلف ایکشن لیا جائے، کیونکہ مذکورہ شخص نے میرے کرکٹر اور پرنسٹنٹی پڑاؤ لگانے کی کوشش کی۔ جس سے میں اذواج زندگی متاثر ہو سکتی ہے، جبکہ مذکورہ شخص نے ہسپتال میں مشہور کر رکھا ہے کہ مجھے مینٹی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ مینٹی ٹریٹمنٹ ہے۔ چونکہ یہ با اثر بندے تھے اور میری بات سنائی نہیں دے رہی تھی، بجائے یہ کہ ایم ایس صاحب شادی شدہ نرس کو یہ آرڈر دیتے کہ اپنے شوہر کو ہاسٹل نہ لایا کریں اور آپ لوگ اپنے لیے کوارٹر کا بندوبست کریں، کیونکہ ہاسٹل پیچھل نرسز کیلئے ہوتا ہے۔ انٹائم ایس صاحب نے مجھے آرڈر دیا کہ آپ یہاں سے جائے۔ میں ہاسٹل میں خود کو محفوظ سمجھتی ہو گاؤں میں میری دشمنی ہے اور میں نے ایم ایس صاحب کو اس میں اپنا صاحبان سے درخواست کرتی ہوں کہ اس پر صاف دشٹاف انکو ازری بنائی جائے، اس مسئلے کا مناسب حل نکالا جائے۔ میں ہسپتال کے رولز ریگولیشن کے مطابق رہنا چاہتی ہوں، لیکن یہاں میری زندگی اجیرن بنا دی گئی ہے، میں صرف اور صرف اپنی حقوق مانگتی ہوں۔ اصول کے مطابق ہوں اور PNC رول کے مطابق جو حق مجھے ملنا چاہئے اس کی طلبگار ہوں۔

میں نوازش ہوگی

نام: محمد فردوس  
شناختی کارڈ نمبر: 14002-9239043-6  
پتہ: کٹھ  
ہسپتال: ڈی جی ہیلتھ صاحب  
پوسٹ: خارج نرس  
تاریخ: 17/7/2023

19

**PAKISTAN National Identity Card**

NAME: **NAJMA KHANUM**

Gender: **F**

1670242304578 1010911569

Date of Issue: **29.10.2019** Date of Expiry: **29.10.2029**

Signature

1670242390

QR Code

محمدہ کاروانی نے پر قریبی ایڈریس میں ڈال دیں

(920)

**REGISTERED NURSE**  
**REGISTRATION CARD**


**NAJMA FIRDUS**  
NURSE

INITIAL REG. DATE: 08-02-2010  
VALID UPTO: 10-02-2028

A-51458

*Najma Firdus*  
REGISTRAR

[www.pnc.org.in](http://www.pnc.org.in)



(21)

WAKALATNAMA

IN THE Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Peshawar

Mst Najma Firdaus -

**VERSUS**

Secretary Health and others

(Petitioners)

(Plaintiffs)

(Applicants)

(Complainant)

(Degree Holder)

(Respondents)

(Defendants)

(Accused)

(Judgment Debtors)

Case

I/ We, Appellant do hereby appoint and constitute **MUHIB ULLAH TARICHVI** Advocate High court, Peshawar, to appear. Plead, act, compromise, withdraw or refer to arbitration for me/ us as my/ our Counsel in the above noted matter, without any liability for their default and with the authority to engage/ appoint any another Advocate/ Counsel at my/ our matter.

Attested & Accepted:

Dated: 5/1/2024

M Ullah

**MUHIB ULLAH TARICHVI**

Advocate High Court Peshawar

Office: Flat No, 106 Second Floor

Abbas Center Main Sadder Peshawar

Gmail: [muhibullahtarichvi@gmail.com](mailto:muhibullahtarichvi@gmail.com)

Mobile : 0345-3434235

Office: 091-5250837

CNIC: 15202-0447199-1

BC No: 09-04-03

Clients

Najma Firdaus

0334 8322 832

CNIC 14202-4239043-6